© rasailojaraid.com

تحریر - شہید ملت علامہ احسان الٰہی ظہیرؒ

مرزائیت اور اُس کے معتقدات

شہید ملتؒ نے عربی میں ایک معرکہ آرا کتاب "القادیانیہ دراسات وتحلیل" لکھی ہے اس کے ایک باب میں انہوں نے قادیانیوں کے عقائد کا تفصیلی جائزہ لیا ہے نیز ان کے مقابلہ میں، ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقائد بھی بیان کر دیے ہیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ اس باب کا ترجمہ ذیل میں درج ہے۔

قادیانیت ان باطل مذاہب میں سے ہے جن کی تکوین ہی اس خاطر کی گئی ہے کہ مسلم قوتوں کو زک پہنچائی جائے۔ اسلام کے ڈھانچے میں رخنے پیدا کیے جائیں اور اس کے افکار و نظریات کو ملیامیٹ کیا جائے۔ لیکن اس صورت میں کہ کسی کو علم تک نہ ہو، کیونکہ تجربات اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب کسی جماعت یا کسی مخالف گروہ نے اسلام کو للکار کر میدان میں مقابلہ کرنے کی جرأت کی تو وہ اس عظیم قوت کو ذرہ بھر بھی گزند نہ پہنچا سکا بلکہ اس کے مقابلہ میں اسلام اور زیادہ آب و تاب سے چمکا اور اجاگر ہوا اور اس کے نام لیوا اور زیادہ ولولے اور ولطنطنے کے ساتھ اس کے شیدائی اور فدائی بن گئے۔ یہود و نصاریٰ اور مکہ کے مشرکوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ وہ اسلام کی منزلت، مرتبے اور شان کو کم کر دیں لیکن اس کی رفعتوں، پر شکوہ بلندیوں اور ناقابل شکست عظمتوں کے سامنے ان کا کوئی بس نہ چل سکا اور سوائے محرومیوں کے داغوں اور

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

یوں کے دھبوں کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ میدان جنگ میں اگر صلیبیوں نے اس مضبوط چٹان سے کرانے کی کوشش کی تو پوری قوت وطاقت کے باوجود اپنے ہی سر کو زخمی ہونے سے نہ بچا سکے۔ طرح کفار مکہ اور یہود یثرب اسلام کے ابتدائی ایام میں سر پھوڑ چکے تھے اور اگر علمی میدان میں مناظرات فشانات کے ذریعہ اس سے پنجہ آزمائی کی کوشش کی تو اس کے نتیجہ میں ان کی حسرتوں کا خون ہونے ے نہ رہ سکا اور پھر اعدائے اسلام نے ترغیب وتحریص اور تہدید وتخویف کے حربے بھی آزما کے ھ لیے لیکن نامرادیوں نے تب بھی دامن نہ چھوڑا اور اسلام اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ پھلتا لتا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ راستے کی رکاوٹیں اور بیگانوں کی سختیاں اس کی جولانیوں میں مزاحم نہ ہو سکیں پھر نا امیدیوں نے ڈیرے ڈال دیئے اور وہ اسلام کو زک دینے، سیلاب نور کے سامنے بند ھنے، سورج کی روشنی کو ڈھانپنے اور چھپانے سے مایوس ہو گئے۔ جزیرۂ عرب کو مشرکوں [illegible] شام اور روم ویونان کے عیسائیوں اور قریظہ وخیبر کے یہودیوں نے اس کا خوب تجربہ کیا اور پھر اس جربہ کو اپنے وقت میں ہندوؤں، بدھ مت کے پیروؤں، آتش پرستوں اور سکھوں نے بھی دہرا کر دیکھ لیا اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ وہ چٹان ہے جسے نہ صرف یہ کہ پاش پاش کرنا ہی مکن ہے بلکہ اسے چھیڑنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں، ان تلخ وترش تجربات سے دشمنان ین نے یہ سبق حاصل کیا کہ اسلام سے کھلے بندوں ٹکر لینا اپنی موت کو دعوت دینا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت ہوتی ہے اور ان کی غیرت وحمیت کو ٹھیس لگتی ہے اس لیے انہوں نے طے کیا کہ آئندہ کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کو کھلے میدان میں دعوت مبارزت نہ دی جائے بلکہ ہمیشہ ایسے مخفی سازشوں اور پوشیدہ چالوں سے زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ دھوکے اور منافقت کی تکنیک کو اپنایا جائے۔ اسلام کے نام لیواؤں میں سے اسلام ہی کے نام پر اسلام کی بیخ کنی کرنے والے تیار کیے جائیں اور اس طرح تدریج اسلام کے افکار پر چھاپا مارا جائے اس کے نظریات کو نابود کر دیا جائے۔ اس کی حقیقی تعلیمات کو مٹایا جائے، اور بالآخر اس کے وجود کو ختم کیا جائے۔

اسی پلان (PLAN) اور تخطیط کے تحت قادیانیت کا وجود عمل میں لایا گیا۔ چنانچہ پہلے پہل یہ ایک اسلامی فرقے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نمودار ہوئی اور بڑی چابک دستی اور ہوشیاری کا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

سے اپنے زہریلے افکار و خیالات کا مسلمانوں میں پرچار کرنے لگی کہ عام لوگوں کو اس کی اصلیت کا علم نہ ہو سکا۔ پھر آہستہ آہستہ اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کچھ اندرون خانہ باتوں کو سامنے لا اور جب دیکھا کہ چند "بے وقوف" اور کچھ "غرض مند" اچھی طرح جال میں پھنس گئے ہیں اور ا ان کے لیے فرار کا کوئی چارہ نہیں رہا تو اچانک اپنے اصلی خد و خال کے ساتھ ظاہر ہو گئی۔ بہ سے لوگ جو اس تحریک کے ساتھ ناواقفیت کی بنا پر وابستگی اختیار کیے ہوئے تھے اور جن کے سینے میں ہنوز ایمان کی کوئی چنگاری روشن تھی۔ اس تحریک کو ایک مستقل مذہب کی صورت ڈھلتے دیکھ کر اپنی نادانی پر پشیمانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے جاہل "فریب خوردہ" ا "خود غرض"، دین اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کر قادیانیت اور متبنئ ہندی سے رشتہ جوڑ بیٹھے۔

یہیں سے قادیانیوں نے اپنے ولی نعمت انگریز کے اشارے پر ان تمام مراحل کو اپنی تبلیغ پراپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا کہ پہلے پہل تو مرزا غلام احمد کو مجدد کہیں گے، پھر مسیح اور پھر رسول ا اور آخر میں تمام انبیاء سے افضل و برتر نبی، تاکہ عام مسلمانوں کو اپنے فریب کا شکار بنایا جا سکے اسلام کے حقائق کو مسخ کیا جا سکے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے اصل عقائد لوگوں کے سا رکھے جائیں تاکہ ان پر ان کی حقیقت آشکارا ہو۔ چنانچہ ہم ان کے حقیقی معتقدات کو انہی کی کت اور انہی کی عبارات میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو اور بعض ناواقف قادیانیوں کو مرزائیت کی اصل صورت نظر آ سکے گی اور انہیں علم ہو سکے گا کہ یہ لوگ کس قدر چالاک منافق مفسد ہیں اور کس طرح یہ بے دریغ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

بلا استثناء تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ہر قسم کے عیوب اور انفعالات بشر سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کا کو ہمسر ہے اور نہ ہی اس کے کوئی مشابہ ہے۔ وہ تشبیہ و تجسیم سے مبرا ہے۔ اس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسال ان پر ختم ہو گئیں۔ وحی ان پر منقطع ہو گئی۔ ان کی کتاب آخری کتاب اور ان کی امت آخری امت

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اور ان کا دین آخری دین ہے۔ اور جو کوئی بھی آپ کے بعد نبوت کا دعوٰے کرے گا وہ کذاب اور مفتری ہوگا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (الاحزاب: ۴۰)

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (مائدہ: ۳)

آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین (ناقص نہیں رکھا کہ اور کو بھیج کر اس کی تکمیل کرنی) اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا (کہ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی)۔

اور ناطق وحی نے فرمایا کہ:

مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه، ترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل، وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ (بخاری ومسلم)

میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل کی کہ نہایت بڑا خوبصورت بنایا گیا ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی ہو دیکھنے والے اسے دیکھیں اور اس کی خوبصورتی وسجاوٹ کی توصیف وتعریف کریں ماسوائے اس جگہ کے کہ جس میں ایک اینٹ لگنا باقی ہے۔ پس میرے سا تھ اس خالی جگہ کو پُر کر دیا گیا ہے اور اب اس محل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ بنا بریں میرے ساتھ محل کر دی گئی اور رسولوں کی ترسیل مجھ پر ختم کر دی گئی اور دوسری روایت میں فرمایا: میں ہی وہ محل کی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اور آپ کی امت آخری امت ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے:

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ — میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ (ابن ماجہ۔ صحیح ابن خذیمہ۔ مستدرک حاکم)

نیز فرمایا:

لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ (مسند احمد) — میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں۔

اور ایک روایت میں فرمایا:

لَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي (طبرانی و بیہقی) — میری امت کے بعد کوئی امت نہیں

اسی طرح امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا عقیدہ ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا اور یہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت اور حسنات میں سے اعلیٰ ترین نیکی کا کام ہے۔ اور ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا جہان کا کوئی شہر اور کوئی بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مکہ مکرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفن مدینہ منورہ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی اور دنیا کی کوئی مسجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے ہم پایہ نہیں ——— اور نہ ان سے منزلت و مرتبہ میں بڑھ سکتی ہے۔ یہ تو ہیں مسلمانوں کے عقائد، لیکن قادیانیوں کے عقائد یہ ہیں:

ذاتِ خداوندی مرزائی عقائد کی رُو سے

• اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے، لکھتا ہے اور دستخط کرتا ہے، یاد رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ مجامعت کرتا ہے اور جنتا ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ اُسے تشبیہ دی جا سکتی ہے اور اس کی تجسیم جائز ہے۔ (العیاذ باللہ)

چنانچہ قادیانی نبی مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی:

قَالَ لِيَ اللّٰهُ إِنِّي أُصَلِّي وَأَصُوْمُ وَأَصْحُوْ وَأَنَامُ — مجھے اللہ نے کہا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں (؟) ... اور سوتا ہوں۔

(البشریٰ جلد ۲، ص ۹۷، مرزائے قادیان کا کشفی الہام کا مجموعہ مرتبہ منظور الٰہی قادیانی)

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

یہ ہے مرزائی عقیدہ اور قادیانی نبی کی وحی والہام، مگر وہ کلام حق جسے اللہ الحق نے نبی برحق پر بذریعہ رسول امین نازل کیا۔ وہ یوں ہے:

اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ
لَا تَاْخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوْمٌ لَہٗ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗٓ اِلَّا
بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْھِمْ
وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ
بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ
وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُہٗ حِفْظُھُمَا
وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ جو حی اور قیوم ہے۔ جو اونگھتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ آسمان اور زمین جس کے قبضۂ قدرت میں ہیں جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور جس کے علم کا کوئی دوسرا احاطہ نہیں کرسکتا۔"

اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں:

اِنّ اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام (مسلم۔ ابن ماجہ، دارمی)

"خدا سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کے لیے روا ہے۔"

اسی طرح باری تعالٰی اپنا وصف بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

قَدْ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا (طلاق: ۱۲)

میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں اور مجھ سے کوئی شئی مخفی نہیں۔"

اور فرمایا:

ھُوَ اللّٰہُ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا
ھُوَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَۃِ
(حشر: ۲۲)

اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی مالک و خالق نہیں جو پوشیدہ اور ظاہر دونوں قسم کی اشیاء کا علم رکھتا ہے۔

اور فرشتوں کی زبانی کہا:

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مریم : ۶۴) کہ ہم تیرے رب کے علم کے بغیر آسمانوں سے نہیں اترتے کہ اس کے لیے ہے جو ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان ہے۔ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔

اور بزبان موسیٰ علیہ السلام فرمایا۔

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى (طٰہٰ ۵۲) نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔

لیکن قادیانی اس کے بالکل برعکس یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا غلطی بھی کرتا ہے اور صواب کو بھی پہنچتا ہے اور یہ بدیہی بات ہے کہ غلطی جہل اور نسیان کے نتیجہ میں ہوتی ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے کہ نعوذ باللہ باری تعالیٰ جاہل اور مبتلائے نسیان ہے۔

چنانچہ قادیانی کے اپنے عربی الفاظ ہیں :

قال اللہ : انی مع الرسول اجیب اخطی و اصیب، انی مع الرسول محیط (البشریٰ، ج ۲، ص ۷۹) خدا نے کہا ہے کہ میں رسول کی بات قبول کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں اور صواب کو پہنچتا ہوں۔ میں رسول کا احاطہ کیے ہوئے ہوں۔

نیز گوہر افشانی کرتے ہیں کہ :

"ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے تاکہ وہ ان کی تصدیق کر دے اور ان پر اپنے دستخط ثبت کر دے، مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معاً جھاڑنے کے اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ (مرزا صاحب کا ایک مرید) کے کپڑوں پر پڑے اور جب حالتِ کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطروں سے تر بتر دیکھا، اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتمال ہوتا اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پاس موجود نہیں جن پر وہ بہت سی سُرخی پڑی تھی " (تریاق القلوب ص ۳۳ و حقیقۃ الوحی ص ۲۵۵ مصنفہ مرزائے قادیانی)

ایک اور مقام پر بھی قادیانی امت کے آقا و مولیٰ خالق و متعال کو کہ وہ تشبیہ سے مبرا ہے بندوں سے مشابہت دیتے ہوئے ذات باری سے مذاق کرتے ہیں :

" ہم تخیلی طور پر فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العلمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہا عرض و طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں (توضیح المرام ص ۷۵ ، مصنفہ مرزا غلام احمد)

اور اس طرح خداوند کریم کے اس قول کی تکذیب کی جاتی ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوریٰ : ۱۱) نہیں ہے اس طرح کا سا کوئی اور اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا

اور اس سے بھی بڑھ کر قادیانی کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ اور تمام آسمانی ادیان کے بالکل برعکس یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ :

" اللہ تعالیٰ مباشرت و مجامعت بھی کرتا ہے اور وہ اولاد بھی جنتا ہے "

اور اس سے عجیب تر کہ :

" خدا نے ان ہی کے نبی مرزا غلام احمد سے مباشرت و مجامعت کی اور پھر نتیجۃً پیدا بھی وہی ہوئے یعنی :

۱۔ مرزا قادیانی ہی سے جماع کیا گیا ۔

۲۔ اور وہی حاملہ ٹھہرے ۔

۳۔ اور پھر خود ہی اس حمل کے نتیجہ میں پیدا بھی ہوئے ۔

اب ذرا قادیانیوں ہی کی زبان سے سنیئے ۔ قاضی یار محمد قادیانی رقمطراز ہیں :

حضرت مسیح موعود (مرزا) نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

حالت آپ پر اس طرح طاری ہوتی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔" (اسلامی قربانی ص۲۴ مصنفہ قاضی یار محمد قادیانی)

اور خود مرزائے قادیان کہتے ہیں:

"مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔" (کشتی نوح ص۴۷ مصنفہ مرزا غلام احمد)

اور پھر کہتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں میرا نام ہی وہ مریم رکھا جو عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہوئی اور میں ہی اس فرمان باری کا مصداق ہوں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا کیونکہ میرے علاوہ کسی اور نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔" (حاشیہ حقیقۃ الوحی ص۳۳۷ مصنفہ مرزا غلام احمد)

اور اسی بنا پر قادیانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ:

"غلام احمد خدا کے بیٹے بلکہ عین خدا ہی ہیں۔"

چنانچہ خود متنبی قادیان کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے:

"أَنْتَ مِنْ مَّائِنَا وَهُمْ مِنْ فَشَلٍ تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ بزدلی سے ہے۔" (انجام آتھم ص۵۵ مصنفہ مرزا قادیانی)

اور اللہ نے مجھے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے:

اِسْمَعْ يَا وَلَدِي (البشریٰ جلد ا ص۴۹) سن اے میرے بیٹے!

اور فرمایا:

"يَا شَمْسُ يَا قَمَرُ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ (حقیقۃ الوحی ص۷۴) اے سورج اے چاند! تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے۔"

اور خدا نے فرمایا کہ:

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

"میں تیری حفاظت کروں گا۔ خدا تیرے اندر اتر آیا تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے۔" (کتاب البریۃ ص۷۵)

اور ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں:

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔"
(آئینہ کمالات اسلام ص۵۶۴، مصنفہ مرزا قادیانی)

اور:

اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃِ بُرُوْزِیْ — تو مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا یعنی تیرا ظہور بعینہٖ میرا ظہور ہو گیا۔"
(وحی مقدس ص۵۲)

یہ ہیں خداوند ذی الجلال کے بارہ میں قادیانی عقائد۔

سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ (سورہ انعام) — اللہ ان صفات سے منزہ اور پاک ہے جن سے وہ متصف کرتے ہیں۔

درآنحالیکہ باری تعالیٰ نے اپنے کلام میں صراحۃً ان عقائد باطلہ کی تردید کر دی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ ۝ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (سورۃ اخلاص) — تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور جس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔"

اور فرمایا:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ — تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو خدا کہا۔

اور فرمایا:

یٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِیْحُ عِیْسَی — اے کتاب والو! اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ اور کچھ مت کہو۔ نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر اللہ کے

© rasailojaraid.com

ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا (نساء: ۱۷۱)

رسول اور اس کے کلام جس کو مریم کی طرف ڈالا اور روح اس کے ہاں کی۔ سو اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں۔ اس بات کو کہنے سے رک جاؤ۔ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ خدا صرف ایک ہی ہے۔ اس کو لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور کافی ہے اللہ کارساز۔

نیز ارشاد فرمایا

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون (توبہ: ۳۰)

یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں، جیسے پہلے کافروں کی ریس میں کہہ رہے ہیں خدا کی مار ان پر۔ یہ کہاں بھٹکے پھر رہے ہیں

ہم بھی قادیانیوں کو ان کے عقائد پر اس کے سوا کچھ نہیں کہتے:

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

بقیہ: عیدالاضحیٰ کے مسائل و احکام

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه العجالة، والحمد لله على كل حالة ومقالة، والصلاة والسلام على صاحب الرسالة العامة، وكفيل الشفاعة يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه العمالة من غير

علامة، وأنا [illegible]

© rasailojaraid.com